



غزوہ خندق کے دن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، قبیلہ قریش کے ایک شخص حبان بن عرقہ نامی نے ان پر تیر چلایا تھا اور وہ ان کے بازو کی رگ میں آ کے لگا تھا، تو رسول اکرم نے ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگایا تاکہ آپ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: غزوہ خندق کے دن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، قبیلہ قریش کے حبان بن عرقہ نامی ایک شخص نے - جو کہ قبیلہ معیص بن عامر بن لؤی سے تعلق رکھنے والا حبان بن قیس ہے - ان پر تیر مارا، اس نے انہیں بازو کی بڑی رگ میں تیر مارا تھا، تو نبی نے ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگوایا تاکہ آپ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔ پھر جب آپ نے غزوہ خندق سے واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کیا تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے وہ اپنے سر سے گرد و غبار جھاڑ رہے تھے انہوں نے نبی سے کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیئے؟ اللہ کی قسم! ہم نے اسلحہ نہیں اتارا، ان کی طرف نکلیے نبی نے دریافت فرمایا کہ: ”کہاں؟“ تو انہوں نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ نے بنو قریظہ کے پاس پہنچے، وہ آپ کے فیصلہ پر اتر آئے، تو آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کا حکم بنا یا، چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگ جو افراد قتل کر دیئے جائیں، عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور ان کے اموال تقسیم کر لیے جائیں۔ شام نے بیان کیا کہ پھر مجھے میرے والد نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی: ”اللہ! تو جانتا ہے کہ مجھے تیرے راستے میں، اس قوم کے خلاف جہاد سے بڑھ کر کسی کے خلاف جہاد کرنا محبوب نہیں جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور انہیں نکال باہر کیا اللہ! میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کو ختم کر دیا ہے پس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو مجھے اس کے لیے باقی رکھ تاکہ میں ان سے تیرے راستے میں جہاد کروں، اور اگر لڑائی تو نے ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کہ اسے میری موت کا سبب بنادے۔ چنانچہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہنے لگا، مسجد میں بنو غفار کا بھی ایک خیمہ تھا۔ وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہنے لگا۔ انہوں نے یہ خوف زدہ کر دیا جو ان کی طرف بھاگے، انہوں نے پوچھا: اے خیمہ والو! یہ کیا ہے جو تمہاری جانب سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی۔ پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ ان سے راضی ہو۔

[صحیح] [متفق علیہ]

حدیث شریف میں صحابہ جلیل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، اس طور پر کہ دوران جہاد وہ زخمی ہو گئے تو ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگایا گیا تاکہ نبی نے ان کی عیادت کر سکیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ان کے بارے میں اللہ کے فیصلہ کے عین موافق تھا، اور وہ یہ کہ جنت لوگ ان کے جنگ کرنے کے قابل ہیں وہ قتل کر دیئے جائیں، ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور ان کا مال ضبط کر لیا جائے، اور یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ان کی خیانت اور غدار شکنی اور خندق کے جنگی حالات اور قریش کے مدینہ کے اطراف جم گئے سے غلط فائدہ اٹھانے کے سبب تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری فضیلت ان کی دعا سے آشکار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں باحیات رکھے اگر قریش اور مسلمانوں کے مابین لڑائی ابھی باقی ہے اور اگر قریش کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی اپنی انتہاء کو

پہنچ گئی تو میرے ان زخموں کو پھر سہارا کر دے جو خندق کے دن مجھے لاحق ہوئے اور اسی میں میری موت واقع کر دے (اور ایسا ہی ہوا)

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10893>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

